# السال كامل

مُؤلِّفَىٰ

فال ببرا جناب مبرمح أسسحاق صاحب دبوى

جسے

جماعت أحسكه دبير كبيب

نے

شايعكيا

پهبدائدین سوام استان می اندو - برا رئیر ن سوام ۱۹۹۹ میدود می ایران می ایرا

## إنديكس مضامين

| IA         | بدر کا واقت  | ١    | اِنسان مُونِهُ كَامِناق ہِے   |
|------------|--|------|---|
| 1/         | أنحضرته مجردون نبيلة كامإنمونه                                 | ۲    | کامِل نُونه دنیامین حرف ایک شخص ہے  |
| ıΛ         | أنحفزت ثنادى شده كبياء نمونه                                   | ۲    | كابل نموزك شناخت كاعقلى ميآر  |
| 19         | انحفزت عورلول سيلئه كامل نمونه                                 | ٣    | إنسانون كرتمام عالات كانقت  |
| ۲٠         | صاحب اولاد كبيلة كالإغ ونه                                     | ۲    | کابل نمونہ پرتمام حالات کاورُو د ننروری ہے  |
| ۲.         | اولاد فوت ہونے پر صبر کا کامِل نمونہ                           | ۵    | عقام ميار بررشيون يءم مطالفت  |
| rl         | آنھفرت کے اکلوتے بیلے کی وفات<br>مار                           | ۵    | عفلي معيار برسيح كي عام مطابقت  |
| ΥI         | بطور حمزیل اور فانتے کے کام نمونہ<br>سر                        | ٨    | عقلى ميار پرآنحوزت صامر کی کم مطابت   |
| 44         | بطو کینبہ والے کے کامِل نمونہ<br>ربا                           | ٨    | ينتبول كيلئه كابل نمونه   |
| 22         | بنلور د وست کے کاہانے وز<br>بی ایران میں نہ                    | 1.   | آنحفزت والدين واله بيخول كبيك كامل نمونه  |
| ۲۲         | انگسار کا کامِل نمونہ<br>ربلہ قام ہو موسران نہ                 | 1.   | آنحفرتَ غریون کیلئے کاہل نمونہ<br>پر  |
| ۲۲         | بطورقیدی آپ کالانمونه<br>زندگی کی تمام نزلول میں کالانمونه     | 11   | اً تحفرت دولتمندون کیلئے کامل نمونہ<br>یز ، یو مز                                     |
| <b>t</b> ? | رندن میام مروان میں اور سور<br>غالاموان سے سلوک                | IF.  | آنحض <sup>ت م</sup> کاوموں کے لئے کاہاغ و نہ<br>میٹر و میں کا سیار ہونہ کی بریت ہے کہ |
| 10         | ۱۳ ون سے صوب<br>آپ کی مظاورتیت                                 | 19   | انخفزت حاکموں ورباد ثنا ہوں کیلئے کامِن نونہ میں<br>چیز میں مذہ ہیں کا                |
| ra         | اپ کی تفکوئریت<br>آیئے کے عنو کا کام نموز                      | Id   | حضور کے روز مزہ کا پروگرام<br>انحفرت متابل لوگوں کسلئے کالا نہونہ                     |
| 74         | اپ سے علو ہ نار مو.<br>ہن محضرت اور صفرت اوسٹ کے عفو کا مقابلہ | 14   | المعرب مهان نوول فينيه قام مويه<br>نبيت المال كے متعاق حضور كى احتباط                 |
| <b>1</b> 4 | النصرت أورهمرت بومن فيصحفوه فعاببه                             | 14   | بیب ممال مصلی حصوری احتیاط<br>حضور کا قومی کاموں میں بطور مزد ور حصد لینا             |
|            |  | 1 '- | روه رق برق بورزرد سيدي  |

## لِسْمِ اللَّهُ الرَّحِلِ الرَّحِيمِ طِ الْحَدَّةُ وَتُصَلِقُ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ

## ونياكسناخ كامل تمونه

## إنسان منونه كامحتاج ب

انسان بالطبع نون کا محقی ہے اور بو نون کام کی انسان نہیں کرسکتا ۔ اس کی ہوئی نون چاہتی ہے اس کا لباس نون چاہتے ہے۔ اس کی طرز و لو و بائش نون کی مقتضے ہے ۔ عرض انسان اپنی ہر حرکت و سکون میر کی کونونر بنانے کے بغر کہ پری کی جہنیں کرسکتا۔ اور جس طرح ہر فرد ایک نموذ کا محتاج ہے اسی طرح جب تک دنیا کی قومی الپی میں ملئی تعییں تو ہر قوم کو اینے لئے ایک نموذ کی ضرورت می ۔ اور آج جب کہ مغربی ایجادات کی وجسے ساری دنیا ایک بلیٹ فارم برجع موکر ایک براوری کے حکم میں ہوگئ ہے توساری ونیا ایک نموذ اور اسوہ کی تشدید ترین ایک بلیٹ فارم برجع موکر ایک براوری کے حکم میں ہوگئ ہے توساری ونیا ایک نموذ اور اسوہ کی تشدید ترین محتاج ہے اور نموز وہی ہوسکتا ہے جو تمام امور عی کا لی مور نا گروہ کسی بات میں ناقعی ہوگا تو لوگ اس کے نعقل برجا کر بجائے کا فل مور خور کی خاص اور تمام باتوں میں احسن اور تمام امور میں کا مور اور الیک تحقیل وہی موسکتا ہو ۔ میں کی زندگی ہر طرح کے دانوں سے باک اور برقیم کے دصوں سے صاف ہو کیوں کہ اگر خود اس کی زندگی موردی کی تو لوگ کی طرح اس برا فتماد کر سکیں گئے ۔ غرض کا می نموذ کے لئے دو امر ضروری پاک ور امر طروری کی دندگی کی دائی گردئی کی کالات اور کیا ہو ۔ دوم یہ کہ اس کی زندگی کی کالات اور موردی ہے ۔ تو موردی ہے ۔ قوم یہ کہ اس کی زندگی معصیت کے داغ سے تیرا ہو ۔ دوم یہ کہ اس کی زندگی کی کالات اور

پ مندیدہ امورسے بھری ہوئی ہو اورزمر گی کے ہر<sup>ش</sup> عبر میں اس کے افعال قابِ تقلیبد مثال میش کرتے ہوں ۔

## کامِل نمونہ دنیا میں صرف ایک شخص ہے

اس قطعی اور بقتی تهدیک بعد می تمام دنیا می یدا مسلان کرنا چاہتے ہی کہ بم نے بہت غور و فکر
اور نلاش وجب جو کے بعد ایک ایسان خص نلاش کر لیا ہے۔ سے بغیر کسی شک وصف برکے اور بغیر کسی شک وجب جو کے تام دنیا کے لئے کال نموز اور نکسی اسبوہ کے طور پر میش کر سکتے ہیں۔ اور وہ سنت خص وہ ہے جو کے متعلق بم نہیں بلکہ بھارا فعدا ہمیں کہتا ہے کہ کھفت کالیٰ کسکو کی دست ولی اللّٰ ہا اُسٹو کا کالم نموز ہو کسانا ہیں دنیا کے لوگوں کے لئے اگر کوئی کال نموز ہو کسانا ہو ان کے لوگوں کے لئے اگر کوئی کال نموز ہو کسانا ہو آنھو آنھو ہو داور آپ کی ذات بابر کات ہے۔ اور چونکہ کال نموز کے لئے صوری ہو کہ وہ تمام معائب سے باک ہو۔ اس لئے فعد تعالی خواتا ہے۔ وفق کہ کہ کہت کی فیسکو کے مقد گرا ہوت کوئی ہو تمام دنیا میں اسلان کر دے۔ کر مقد کر ہوت و رسالت سے قبل کی زندگی میں تمام معائب اور معاصی سے باک وہر ایسے کوئی ہے جو میری شعوت و رسالت سے قبل کی زندگی ہمی تمام معائب اور معاصی سے باک وہر ایسے کوئی ہے جو میری شعوت و رسالت سے قبل کی زندگی ہمی تمام معائب اور معاصی سے باک وہر ایسے کے کوئی ہے جو میری شعوت و رسالت سے قبل کی زندگی ہمی تمام معائب اور معاصی سے باک وہر ایسے کی کوئی ہے جو میری انسان کو دور تمام اوصا فِ کالم کا جام ہو ۔ اس لئے فوایا ۔ انگ کوئی گئی کھی خواں۔ ایوں ۔ بھی تمام تعلقات زندگی میں وہ کے کہت کی رشتہ داروں ۔ بھی ۔ بچوں ۔ بچوں ۔ بی افول اور وہ صور معامی اسلان کے دور ہو سے بئی ان سب بی صفور ملمیہ انسان کے دور ہو سے بئی ان سب بی صفور ملمیہ انسان کے دور ہو سے بئی ان سب بی صفور ملمیہ انسان کے دور ہو سے بئی ان سب بی صفور ملمیہ انسان کی ذات ستو وہ صفات کا بن نمون اور بے لئا اسلان کے دور ہو سے بئی ان سب بی صفور ملمیہ انسان کی ذات ستو وہ صفات کا بن نمون اور بے لئا اسلام کی ذات ستو وہ صفات کا بن نمون اور بے لئا اسلام کے دور ہو سے بئی ان سب بی صفور ملمیہ انسان کے دور ہو سے بئی ان سب بی صفور ملمیہ انسان کے دور ہو سے بی کی دور کی کھی کی دائی سیام کی دور کی بھی کی دور کی دور کی کھی ہو کی کی دور کی کی دور کی دور کی کھی کی دور کی کھی کی دور کی کھی دور کی کھی کی دور کی کھی کھی کی دور کی ک

## كامِل نمُونه كي شناخُت كاعقال معيارُ

قراً ن مجید کے اس دعویٰ کو غیر مذاہب والے بغیر دلا کے کم طرح تسم کرسکتے ہیں ؟ کیوں کہ میسائی مسیح کو ۔ اربی جارر شیوں کو دنیا کے لیے کاس نموز سمجھتے ہیں ۔ اس لیے ایک سلمان کے لیے نہایت حزوری ہے کہ وہ یہ نابت کرے کہ واقعہ میں رمول تقبول صلے القد علیہ وسلم زندگی کے مرشعبہ میں ہزقوم اور ہر ملک کے لئے نمونہ میں ۔ اور میں نے چونکر یہی نابت کرنے کے لئے اس صفحون کو شروع کیا ہے اس لیے میں کال نمونہ کی بہجایان کا ایک عقلی معیار میسیش کرتا ہوں جس برجوشن محص جی برکھا جاکر لورا انزے گا۔

وسی ساری دنیا کے لئے کاپن نموز ہوگا اور وہ معیار بہے کہ چونکہ کابن نموز وہی شخص ہوسکتا ہے جو دنیا کے ہر سنخص کے لئے نمونہ ہو۔ اس لئے طروری ہے کہ اس بر تمام وہ حالات بھی اویں ہو دنیا میں لوگوں پر اُت بیں۔ اور کوئی حالت جو دنیا میں کسی شخص برائی ہے اس سے وہ شخص خالی نہ ہو کیوں کہ اگروہ دنیا کے لوگوں کی کسی ایک حالت سے بھی فالی ہوگا تو وہ کم سے کم ان حالات والے شخص کے لئے نمونہ نہ ہو سکے گا۔ ہوگا۔ اور اس طرح وہ کابل نمونہ نہ ہو سکے گا۔

ونسانون كرتمام حالات كانفث

ویل میں ہم ایک نفت میں بناتے ہیں کہ دنیا میں عموماً لوگوں برکیا حالات آتے ہیں اور بجردیکھیں کے کہ دنیا کے کس پیشوا اور امام اور نبی بروہ تمام حالات اُنے ہیں۔ تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ وہ مہارے لئے مارے تمام حالات میں نمونہ بن سکتا ہے یا نہیں ؟

ار يتسيى ادارا بعنى بزرگوں ۱۵۰ بيار بهونا اور وادا بعنى بزرگوں ۱۵۰ سندرست بهونا اور وادا وادو بهونا اور خورت اور وادو کا فوت بهونا اور کا فوت بهونا ۱۵۰ ووستوں والا بهونا ۱۵۰ ووستوں والا بهونا ۱۵۰ ووستوں والا بهونا ۱۵۰ ووستوں والا بهونا ۱۵۰ وستوں والا ۱۵۰

۸. فتح پایا ۲۰ بیع و شرا و قرض و مین و نیره معاکلات کرنا ۹. شکست کھانا ۲۲ معاہدات کرنا ۱۰ د لاکھوں کا ساتھ ہونا ۱۱. اکسیلا ہونا ۲۵ مشہور ہونا ۱۱. غرشا دی شدہ ہونا ۲۱. غرشا دی شدہ ہونا

۱۱ نیرط دی صوره دو ۱۷ موانی ۱۳ جوانی ۱۲ موانی

٣٤ ـ لوكرون جاكرون الوندى فلامون والامونا ۲۸ و او صطربهونا ٣٨ . كنير والابونا ۲۹. مرجابا ۴۹ر کسی کامسایه مونا ٠٠ ي قيد بونا اورشمن كيني مي رفتارمونا .٧٠ وطنت بوا ام - آزادمونا ۲۲ - مطلوم ہونا ام كى يتيم يا ببوه كاسربريت مونا ۲۳ ـ اطلم كرنے كاموقع يانا ۴۲ متعدد شا دبا*ن کرنا* ۲۳ . ایک بروی کرنا ۳۰ . زخمی سونا ه ي قل بونا يافل وف للنا ۳۶ ر فوت مونا

## کامِل نمونہ برزنمام حالات کا *ورُو د ضروری ہے*

ہم نے جہان کے فورکیاہے۔ ایک انسان پراس کی زندگی میں جس قدر بھی مختلف اور متفاد حالات میں کون اسکتے ہیں وہ کم دبیش جالین کا ہیں۔ اب یہ معلوم کرنے کے لئے کہام دنیا کے لئے ان تمام حالات میں کون تمیز ہوسکتاہے ۔ نہایت مزوری ہے کہ ہم د کبھیں کہ دنیا کے بیش کردہ پشتواؤں میں سے کسی پر برحالات اکئی ۔ یہ بعد میں دکھیا جائے گا کہ وہ ان حالات میں جارے لئے اچھا تمزنز بن مجی سکتا ہے یا نہیں ۔ بیلے حرف یہ دکھینا ہے کہ آیا ندہی لیڈروں ورمول کے اماموں اور بیننیواؤں پر برحالات کیڑہ تحقیلا اور دھی موٹ یا نہیں۔ مثلاً اگر عیسا ئیوں کے مذہ بسکتے باتی پر برحالات ہی نہیں اسٹ تو وہ اِن حالات میں جارے لئے کس طرح نمونہ بن سکتا ہے ؟ یا مسلمانوں کا پیشوا ان مالات ہی میں سے حالات میں گزرا تو مسلمان کس مند سے دنیا کو کہ سکتے ہیں کہ بجارے ہی اور رسول کے جھنڈے کے دنیا سیسے کوئوں اور شہور مذہ ہوں کے پستیواؤں پر برحالات سب سے اوّل ہم مرف یہ دیکھیں گے کہ ونیا پیشوا کی قوموں اور شہور مذہ ہوں کے پستیواؤں پر برحالات سب سے اوّل ہم مرف یہ دیکھیں گے کہ ونیا پیشوا کے متعلق نانہیں۔ بھر جس کی قوموں اور شہور مذہ ہوں کے پستیواؤں پر برحالات سب سے اوّل ہم مرف یہ دیکھیں۔ کے کہ ونیا پیشوا کے متعلق نانہیں۔ بھر جس کی توموں اور خبر کے متعلق نانہیں۔ تاہم صلات ہی سے نہیں گذرا اور مہر کے متعلق یو نابت ہوگا کہ وہ ان تمام حالات میں سے نہیں گذرا اور مہر کے متعلق یو نابت ہوگا کہ وہ اس تمان مقالم ہیں سے نہیں گذرا اور مہر کے متعلق یو نابت ہوگا کہ وہ ان تمام حالات میں سے نہیں گذرا اور مہر کے متعلق یو نابت ہوگا

کہ اس پر سہ تمام صالات وارد موئے ہیں ۔ اس کے متعلق ہم اسکانی طور پر یفتوی لیگا سکیں گے کہ اگر کوئی شخص کا من موز بن سکتا ہے تو بیشخص ہے کہ اگر کوئی شخص کا من موز بن سکتا ہے جس پر تمام انسانی صالات کمیں اور بھروہ سب میں قابل تعلید مثال میٹی کرسکے ۔ اس اسکانی فقوئی کے بعد سم اس شخص کے حالات بر بور کرکے معلوم کریں گئے کہ آبا جب اس پر میر صالات محتلفہ اور احوال کمٹیرہ آئے تھے تو وہ ان سب میں کھا تھ ' اپنے فراکھن جا لاسکا تھا یا نہیں ۔ اور مر صالت میں اس نے دی کچھ کیا تھا یا نہیں جو اسوقت کرنا مناسب اور مقلاً درست اور خروری تھا ۔ اور خروری تھا ۔

عقام عيار بررشيون يءرم مطالفت

ار معیار کے مطابق پہنے ہم وید کے چار رہنیوں کو لیتے ہیں ۔ اسکین افسوں کہ سوائے اس کے کہ اُرلیاں کا زبانی دعویٰ ہے کہ ابتدا ، عالم میں عاررشی ۔ اگئی ۔ والو ۔ او تعد اور انگرہ نامی اُرج ہے ایک ارب بتیں کروٹر برس پہلے گذرے ہیں اور کوئی امر بھی وہ ان کے متعلق نہیں کہ سکتے ۔ سوائے اس کے کہ وہ ہے ماں باپ تھے اور بہن گذرے ہیں اور کوئی امر بھی وہ ان کے متعلق نہیں کہ سکتے ۔ سوائے اس کے کہ وہ ہونا ۔ ووست دہمن رکھنا ۔ جنگ کرنا ۔ فیج و شکست پانا وغیرہ وغیرہ ۔ یعنی ان چالیس طلات میں سے کسی ایک حالت کا بھی وار دہونا اور اس کے نزد کی بھی نامیت نہیں ۔ اور اس امر کے وہ نود مقر ہیں کہ ان رشیوں کے حالات کا قطعا کوئی علم نہیں ۔ اس لئے ہم بڑے اور اس اور اس کے کہ آپ مقالم کے امتحان کے کمرہ سے باہر تنزلین نہیں ۔ اس لئے ہم بڑے اور ہوں ۔ اسکت ہم جس بر ہم انسانوں کے تمام حالات وار دہوں ۔ اسکن نہیں ۔ کے جا میں ۔ کیس کی ہم اس کو اپنے لئے نموز بنا کئے ہم جس بر ہم انسانوں کے تمام حالات وار دہوں ۔ اسکن وغیرہ ۔

## عقلى عيار برجيحي عدم مطابقت

اں کے بعدہم عیسائیوں عوض کرتے ہیں کہ براہ مہربانی اپنے پیشوا اورخداوند کے حالات کی لسٹ پیش کریں ۔ مگرافسوں کہم اس لسٹ کو اکثر جگہ سے خابی باتے ہیں اور جس نمر کو دیکھتے ہیں۔ وہاں یا تو صغر مکھا ہوتا ہے یا عدم علم کا عدر کیا ہوتا ہے ۔کیونکہ جب ہم نے اس لسٹ کو دیکھا تو معلوم ہوا کرم سبح غرب تو تقے مگرام ہی کا حالت ان پر نہیں آئی۔ اس لئے ایک امیر اپنی زندگی میں اپنی امارت کے لئے مسیمے کے حالات کو کس طرح نموز نبا سکتا ہے ؟ اسی طرح مسیمے روسیوں کے محکوم توسقے مگر خو کہم جاکم اور بادشاہ

#### إنسًانِ كَامِلُ

نه مہو ئے رام لئے ایک او نناہ موید جام آہے کہ میں اپنی باوشامت میں کسی کامل بادشاہ کونمونہ نباؤں وہ کس طرح حفرت مسيح كونموز بناسكتاب مراسي مارح مسيصف ذكمي قوم سے جنگ كى رنه فتح بهوائي مذشكست كاموقعه ملارکہ امکیہ حبّات و ایک فاتح یا ایک شکست نوردہ آپ کوٹموز آبا سکے بھیرمسے کنوارے رہے اور ببشک آپتمام دنیا کے کنواروں کے لئے نموزہیں۔ کیونکہ مسے باوجود کنورا ہونے کے ساری عمر نہایت عفیف اور پاک دامن رہے۔ ایسلنے کنوارے اپ کونموز کپڑ سکتے ہیں۔اور کنوارہ رہ کر آپ کی پاکدامنی کانموز اختیار کر سکتے ہیں۔ مگرافسوس کے مسے نے تنادی نہیں کی اس لیے شادی شدہ لوگوں کیلئے اپنموز نہیں بن سکتے بھر جونکہ مسیح کے شادی نہیں کی۔ اس لئے اپ صاحبِ اولاد بھی نہیں تھے۔ اس لئے صاحبِ اولاد لوگ اپنی اولاد کی تربیت میں ایکو نمونه نهب نبا سکتے ۔ بچرجب آپ صاحب اولاد تنه تھے تو آپ کی اولاد فوت بھی نہیں ہوئی اس لئے کہ طرح وہ تحف جس کی اولاد فوت ہو جس کا جگر کا محراً اسے جدا کیا جائے موت جس کے تعل کو اسے جین کرنے جائے۔ میرے کو صبر جمیل کا منوز بنا سکتاہے؟ دیکھوالک شخص لوامھاہے اس کی اُولاد فوت مورمی ہے ۔ الرکمان اور روك كيا ورك مرت جات بير اس كي أنكول كے سامنے دنيا اندهر مہور ہي ہے . وه طبعاً جامباً ہے كر مجھاس وقت كوئى ربمبرطے جو مجھے بتائے كه اس بن مراطاسے كس طرح گذرما جاہيے۔ وہ أواز دے كركم بتاہے خاوندمسيح ميرا القدكيرسية اومحيے فرمائيے كه اب ميں كيا كروں - ميرى به تلخ زندگی كس طرح لبر ہو. بجھ كب طريق فتاركرنا چاہيئے ـ مگر افسوس كرمسيح اس كا التونهيں بكرات ـ مگر دور ہى سے اتنا فرما ديتے ہيں ـ كم بھائی صبر کرو ، وہ کہتا ہے کہ س طرح صبر کروں ؟ موت نے تو باتھ وال کرمیرے طبر کے تکومے مگراسے كرويئے ہيں بميرے نورمشم ميري الكھوں كے سامنے بيوندر مين ہوگئے ہيں۔ جلتے بھرتے جوان بيلے بيٹيا ي ملک الموت مجھ سے چیین کرکے گیا ہے میرا روش گھر اندھرا ہو گیا ہے ۔ مجھے کسی وقت جیبن نہیں رکھا بختھے اے حداوند الیم مصبت اُئ کرمیں ترب حالات بر بنور کرکے تسلی پاسکوں ؟ تو میج صاف کہتے ہیں کہ بمائی بیشک مجھے مصبت وزیا می نہیں بینی ۔ مجھے معلوم بی نہیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے اوراس کی حبت كيا موق بي اور عير حدال كا صدر كبا موات ؟ من تواس صيت سي نام سنا مول. وه مصيت زده کے گا کر حصنور عیر میں آپ کو د کیج کر کس طرح تسلی باسکتا ہوں ؟ سی طرح مسے نے کوئی کاروبار نہیں کیا د تجارت کی منه ملازمرت کی نه بیع و متراء اور رمن وغیره معاملات می مرب تو تو سطرح ای نا جرول النمون كاروبارى لوگون يا فريد وفرونت كرف والول كے كئے نموزبن سكتے ميں ؟ كين سيح دنيا کے کروڑوں تا جروں کا کھوں کا روباری اوگوں کا لکھوں ملازموں اور ارلوں روزانر خرید وفروخست

کرنے والوں کے ملے کیا نمویز پیش کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک ورولین شقے ۔ ہاں ورولینوں اور خانفا مو<sup>ل</sup> كِ متوللوں كے لئے بينيك اپ نمونه ہيں ۔اسى طرح آپ مظلوم سفتے "آپ قيد موت ۔ آپ قتل كئے گئے یا فتِق کے قریب موے اوران نمام امور میں آپ نے اجہا نموند دکھا یا مصر کیا جوانمردی اختیار کی، سب کے کیا اور تطاوموں قید لوں کے لئے بیشک آپ نموند ہیں۔ مگراس کے برمکس آپ کو موقع نمیں ملا کراپ کے دشمن آپ کے قابومیں ہوت ناکہ ہم ان لوگوں کے لئے آپ کونمون کہ سکین میں کو د شمن برغلبه با نے کامُونع مِلماہے ۔ مگروہ عفو سے کام لینے ہیں ۔ انتقام کی گنجاکش ہے مگر و ہ درگذر كرتے بي - وه طلم كركتے بي مگروه رحم اختبار كرتے بي - اسى طرح مسيح ان بولو ك کے بھی نمونہ نہیں جن کی ایک سے زیادہ میویاں ہوں کہ عدل کس طرح کیا جا سکتا ہے ؟ اور باوجود ا کیا بیوی سے زیادہ محبت ہونے کے ہر کمال مدل کیوں کر ممکن ہے ؟ اسی طرح مفرت مسیح نے کوئی نو کرنہیں رکھا ۔ نہ آپ کا کوئی منلام تھا یہ آپ کی کوئی لونڈی تھی کہ وہ ہوگ آپ کونمونہ کپٹر سکیں ۔ جنہیں خلانے براروں نوکر دیئے ۔ آگے سیمھے بورنے کیلئے لونڈی اورغلام دیئے اورخدمت کے سے ہزاروں ملازم ان کے سسپرد کر دیتے۔ اسی طرح مسح بر بقول عبیسا ئیوں کے مرصایا نہیں آیا ، کہ لوڑھے لوگ کمزورلوگ مسيح كانمونه اختتيار كربي بمجرانجيل ميرمسيح نى كسى بمارى كاعال نهبي لكها كه جمار لوگ اينے اخلاق مېرمسيح كونموز بناسكيں يچرنڈم ينج بہبابہ رقصتے تھے۔ نہ كولى يتيم يا ببوہ ان كى سرىرىتى مىں تھى ۔ اسكتے مسے کی زندگی کا مطالعہ کرکے ایک شیخص کس طرح معلوم کرسکتا ہے کہ مجھے ہمسا نیوں سے کس طرح سلوک سے بین آنا جاہئے اور منتیم اور سبوہ کی کس طرح سسر برستی کرنا جاہئے بیفرض ان حیالیں امور میں سے حرف بارنج جھ بالوں میں حضرت مبع انموز بن سکتے ہیں۔ بافی تام حالات میں ہمارے کے مسيح قطعاً مُونة تَنبيل اس ليم تم مرّب ادب سے مدیساتی صاحبان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مبتیک كسى زماندمين بيرو دلور كى الكب محدود قوم مين معبوث مروكر الكيه عظيم الشان سارى دنيا كى طرف آف وال بیغیمبری شنبها وت دینے تحییع تومیسی آنے موں کے رمکن اس زمانہ میں جبکہ ساری دنیا ایک بلیط فارم پرجمع موجکی ہے اور انسانی زندگی میں جالبی کے قریب مختلف اور منصاد حالات گذرتے ہیں جونکر مبلے ان تمام حالات میں دنیا کیلئے نمور نہیں بن سکتے راس لیے براہ مہربانی آج سے سیسے کو تمام دنیا کے لیے کال رمبر اور کامل منونہ کے طور بر میش یہ کیا کرس :

## عقام عبيار برآنح صرت صلعم كى كلّى طالقت

اس کے بعد ہم سلمانوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹیوا اور نبی کے حالات اور کا رناموں کی فہرت بیٹن کرو۔ وہ ایک ضخیہ طلہ عارے سائے رکھ دیتے ہیں بوب ہم اس کو کھول کر د کھیتے ہیں توف اس کی قسہ بغیر مبا بغیر مبا بغوں کا اس کا ہم صفیہ سنہی حروف ہیں کہ ما ہوا یا ہوں اس کی فہرست کی قسہ بغیر مبا بغیر کہ اس میں السی السی جیب با تیں میں کہ حافہ صفر نہیں السی السی السی جیب با تیں اور ایسے عظیم الشان کا رنامے کھے ہوئے ہیں کہ جن کی فہرست ہی نہیں بلکہ اس میں السی السی السی طبی میں کئی صد میں نہیں انہ کہ اس میں نہیں بلکہ مرف اور اور کی کھے ہوئے ہیں کہ جن کی فہرست ہی نہیں بلکہ مرف مدنی زندگی کے دس ال میں نہیں بلکہ مرف مدنی زندگی کے دس ال میں نہیں بلکہ مرف مرف وہ بھی کہ ساری قوم اس کو صبور نہیں ہے اور خود اس کو کھو وہ بھا کہ کر خالول میں جو وہ بھی کہ ساری قوم اس کو صبور نہیں ہے اور خود اس کو کھو ہے جاگ کر خالول میں حصب پر تاہے وہ میں کارنا ہے دکھا تا ہے ۔ دل جا ہتا ہے کہ کتاب بیسنگ کرانکار کر دوں اور کھم دوں کر بیا تھی کہ بیا تا کہ ایک وہ میں آئی کو وہ یہ کارنا ہے دنیا کا جغرافیہ اور برابطہ وں کی لولٹ کی کر بیا سلطن قوں کا عور جو وزوال کورب کے بادری میں ہوں تا ہوں دیا نہ میں اور نورال کورب کے بادری میں ہوں جو کہ کتاب بیس کی تاریخ میں سلطن قوں کا عور جو وزوال کورب کے بادری میں ہوں جو دورانیا بڑتا ہے اور بغیریا نے کہ جادہ ہی نہیں۔ وزوال کورب کے بادری والے کو جی اپنیا وجود منوالدیا ہے۔

## يتبمون كبلئه كامل نمونه

تو باب كئ ماه بيليد بى رواد مهوجيكا تقاراس لى تو الكب ون بعى ابينے باب كى محتب مذبائى راس تمرنے توالك منٹ کے لئے بھی اینا سنجر نرو کیھا مگر کیا وہ والدسے محروم بوکر بداخلاق موگیا ؟ یا کیا آوارہ مولیا ؟ یا قوم كى نظرون مي گرگها به منهيں اور مر گزنهيں ۔ وه تو اليها شريق نكلا اور اليها تربيت يافعة موا كه داوا اين مقیقی بدیل سے بڑھرکر بوتے سے ، اور خیا اپنے مقیقی نور شیموں بڑھ کرا نی بہتیے سے عدت کرما تھا۔ ملکہ تمام حوان بیطے کنارہ پر بیٹھتے تھے ، مگروہ بتیم پوتا ، ایسا شالک، ایسا خوبہوں والا ، ایسی وافریب عادات رکھنے والانکلا کہ داداکے بہلو مرہیلو بلیجتاً کھر جیا کو دیکھو بشام کا سفر کرتاہے کون بیٹائے جوباب كے ساتھ غير كالك كى ميركرنا نہيں مايا ہمار مگر تجا اگر نحسى كو ساتھ ليتا ہے تو سيتيج كو - ير تقے اضلاق اس يتم كے الي تقبي عادات اس باب كني كى رئي اے يتمبو إ اگرتمهارا باب فوت ہو كا ہے تو تم اس مبتیم اعظم کے حالاتِ برصو بھر اس کی روش اختشار کرو ۔ اور اس کے طرافق برحلو ۔ اور ورسی سعا وتمندی بریا کرو اور محر د مکیوسبتم سے باپ ی طرح محبت کرنے پر تیار موجائے میں اور خلا نے تم سے ایک حسمانی باب لیا تھا اس کے عوص ساری دنیا کے شریب آدی تمہارے روحانی باب سینے کیلئے تیار موجاتے میں اور وہی لوگ جوتمہیں لو جھیتے نہیں تمہیں اپی مجلسوں میں سیکھنے نہیں دیتے تمہیں حفارتِ ی نگاه تسے دیکھتے ہیں۔ تہہاری سدھری ہوتی ما دمیں دیکھ کر ، تنہاری مٹرافت ویکھ کر تم کو مرا نکھوں پر ہٹھانے کے لیے میار ہو جامئی گئے اور میچ میج تم اس کے مصیداق ہو کہا وکئے کر ٱكْفريجَ لِذَكْ يَتِتِيمًا كَنَا وَي بِينَ كَمَا تَم يَتِّيمُ أَيَّ كَيَاتُم كُولِوكَ إِبَى كَلِسُول المُكَّال نه دیے تنظ کیا تم کو مقارت سے نه دیکھتے تھے ، پھر کیا تمہاری خوبیوں کی وجہ سے تمہاری شافتوں كود كيفكر بمبارك اوصاف كامشامه كركي بين فتشربليط نهبي كباب كمياتم لوگون مي معزز نهبين سوك يك كياب ونياتمهارى قدرنبين كرف للى ؟ كياتم باب والوس عظر مرصاحب عظرت نبي ہوئے ہو میں مولکے اور مزور مو گئے اور بیسب اس لیے مواکر تمنے ابی عادات کو درست رکھا بنو بول میں ترقی کی ،لوگوں سے اوب سے پینی آئے ۔ تو دنیا کہنے لگی ۔کدیریا ترکیف آورکیسا ا چھا بجہہ ہے۔ لیں ونیاکے بتیم بحتوں کو جاہیے کہ اگروہ قعر مذلت سے نکانا جا ہتے ہں اور مبتمی کے نفضان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو منتم اعظم کے نمورز کو اختیا رکریں۔

ا حاویث کے نابت ہے اور لو آریخ بھری پڑی ہیں ان واو نوات، کر حضور ملتمی کے زملنے میں اور وزات کے دمان میلے ، پورے راست باز ، ننہایت کم کو ، کامل مما قب ماں ، چج آ اور

#### إنسئان كابل

دادا اوربزرگوں کے کامل فرمانبردار تھے ۔ آوارہ نہ بھیرتے تھے ۔ گالی گلوچ کی عادت نہ تھی کیس آپ ونیا کے ہر نیٹیم کے لئے نمونہ ہئیں ::

### أنحضرت والدبن والم ببخول كبيلة كامل نمونه

یہاں پرمکن ہے کہ کوئی شخص میمہ دے کہ حضور تیم سے اس کے دنیا کے تمام تیمیوں کے لئے تو ہے تشک حضور نمونہ ن کے میں وروہ اپنے باپ کی فدمت اور فرانبرداری معنور نمونہ ن کے میں وروہ اپنے باپ کی فدمت اور فرانبرداری افسیار کر زاچاہتے ہیں۔ ان کے نے حصور کمس طرح نمونہ بن کیے ہیں کیوں کہ حصور کے نے بن کیوں کہ حصور کے اپنے میں ان کے اس کہ حضور کے لئے۔ نمونہ ہیں جلبیا کہ حضور میں جا کے اس کے کہ کے داد اور چپا موجود سے اور آب کے ان کی اس کی کوئی موجود سے اور آب کے ان کی اس کی کیونکہ کو حضور کے والد فوت موجود کے گئے مگر باپ کی بجائے داد اور چپا موجود سے اور آب کے ان کی اس کی فرانبرداری اختیار کی تھی کہ کوئی شخص باپ کی جی نہیں کر سکتنا ۔ لیں ان بجوں کے لئے بھی آب بنی کوئی ہو جو تھی کہ کوئی شخص باپ کی جی نہیں کر سکتا ۔ لیں ان بجوں کے لئے بھی آب بنی کہ ایک اور فوری اور قریبا ساری عمر فدرت کی ہے ۔ آپ کو ایپ نے نمونہ نہوں اور داد اور فرم معتلم کی کامل اور فرم باپ باپ کے والد فوت موجواتے ہیں ۔ تاکہ آپ تیمیوں کے لئے نمونہ نہوں اور داد اور داد والد فوت موجود کے لئے خدرت اور فرما نبرداری کانمونہ بن سکتے ہیں۔ لیک کی کوئی آب باپ کے والد فوت موجود کے لئے خدرت اور فرما نبرداری کانمونہ بن سکتی ہیں۔ بی کہ کہ آپ باپ کے والد فوت موجود کے لئے خدرت اور فرما نبرداری کانمونہ بن سکتی ہیں۔ بی کہ کہ آپ باپ کے والد فوت موجود کے کئے خدرت اور فرما نبرداری کانمونہ بن سکتیں ،

### أنحفزت غريبون كبيلية كامِل نمونه

یباں پر ول چاہتا ہے کہ حضور کی یتمی کے زمانہ کے حالات اور داوا اور بچا کی فرمانہ دارگی کے واقعات تفصیل سے مکھول ۔ مگر افسوس کر گنجائش نہیں مضمون صدسے بڑھ رہا ہے اس لئے مجبورا اسے حچور کر آگ بڑھتا ہوں ۔ اور بجائے تغصیل اور کسی ترتیب کے کسی کی حگر سے حضور کی کما ب حیات کے ورق گروانی کر تا ہوا کہ یہ مجبور اسے کہ آپ عزیب سے ۔ اور عزیب بھی الیسے کو مبر کا کوئی گذارہ نہ ہو ۔ وا دا فوت موج کے ہیں ۔ چچا گونہا بت معزز ہے ۔ مگر حبنامعزز ہے ۔ امنا ہی عزیب اور کیڑا تعبیال بھی ہے ۔ ابنیا گذارہ بھی نہیں کر سکتا ۔ یہ بڑھ کر مجھے نومٹی مولی کہ الحمد للد میم عزیب اور کیڑا تعبیال بھی ہے ۔ ابنیا گذارہ بھی نہیں کر سکتا ۔ یہ بڑھ کر مجھے نومٹی مولی کہ الحمد للد میم عزیب اور کیڑا تھیا کہ کر الحمد للد میم مرب کی دندگی کا مطالعہ کر کے معلوم کریں گے ، کو فریا ۔ کو کسیا طریق اختیار کر نا جا ہے ۔ اور کس طرح عزیت کی حلن ' سوزش اور تکالیف کو مردات یا مقاملہ کر کے طریق اختیار کر نا جا ہے ۔ اور کس طرح عزیت کی حلن ' سوزش اور تکالیف کو مردات یا مقاملہ کرکے

#### إنسئان كابل

دو دکرنا چلہئے کہ سوبے شک ہم اپٹے ئی زندگی کا دو رغرت سنہے حروف میں اور حلی فلمے لکھا ہوا و نکیصتے ہیں اور ہرغریب کیلیے اس میں کامن نمونہ اور بے نظیرا سوہ باتے ہیں یک نو ! و 'نیا میں نہبت ے غریب بالحفوص خاندانی لوگ اس نے غرب کاشکار میں کہ وہ محنت تنہیں کرتے ۔ انہیں اگر کونی کام تھی ملتاب توابی شان کے خلاف سمجھتے ہیں مرجا میں گئے ۔ مگر مردوری مذکر میں گئے ۔ فوملی ترقی کر رى ہن ُ غريب امير ہورہ مبي-صناع اورليبر دنيا ميں اوشا ہ بن رہے ہن بيكن بيا پئ كسرِشان مجھنے ہیں۔ مگر کرور ورور ورور ورور وسلام اس غریب بر کر سب سے معنزز اور خاندانی اور معبد المطلب كا بیٹا ہوکراں وقت حبکہ بادشاہ ہوگیاہے ۔ فخر محسوس کرہاہے اور کساہے ۔ وَلَعَنَّذُ دَعَبِیثُ لِاَ هُلِ صَلَّكُهُ عَلَى قَدُرُ الْمِنْ عَلَى مَدِي فِيذُ مُنِيون كَيْ مُوصَ مَدُ والون كي مكر مان حرابا كرمّاتها وسجان التدالعظيم اور اپی ارت کو صاف اور معیّن الفاظ میں باربار کہتا ہے کہ رب سے افضل کھانا وہ ہے جواپنے ہاتھ کی مانی کام اور فرماتا ہے کہ داؤر نبی تھی اپنے ہاتھ کی صنعت کی کمالی سے گھاتے تھے۔ بھر انت کوڈرانے كِ لِيُ كَهِمَّ إِنَّ أَعُوْدُ بِلَكَ مِنَ الْجَعِثَ زِوَ الْكَسْبِ - الله مُحِصَّى ے مکما رہے اور مرکار رہنے سے بچا سے اپنی امت کے ایک شخص کو بلا کرکہ آہے کہ یہ کلما رسی کے اور حنگل میرجا اورمکر میان کاملے کر میر ٹھیے مرلاد کر شنہ میں لا اور بہج ۔ اور دیکیو فبردار ایسی سے کچھے نہ مانگنا ۔ مجبر سوکر آپنے سے کم درجہ کے خاندان کی عورت کی ملازمت اختیار کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں حاکر تجارت کرتے ئي . اوران طرح مكريان چُرانا ر ملازم ہونا ، تجارت كرنا ـ تعينوں چيننے اختيار كىركے دنيا كے غرموں پر منظاہر کرتے میں رکہ دیکیھو انسان کے لیٹے سوائے فعدا کی افرمانی کے اور کسی کام میں عمیب نہیں۔ کاسٹس اِمسلمان فرہار اس نصیحت پر عمل کرتے ، مگر افسوس کہ لورپ والوں نے عمل کیا یا ور تاج لورپ کے موجی ، حلاہے ، اُمُهار اور دو کاندار یه جارول گروه تمام دنیا پر حکومت کررہے ہیں۔ تبکن مسلمان مجوکے مررہے ہیں۔ اور اپنے نی کے حکم برغل نہیں کرتے ۔ مور یا درکھنا جائے کرغرت کے نتیجہ مس کچھ عبیب سیدا موجاتے ہیں ممثلاً موال كرنا حورى كرنا حرص كرنا فصايت كرنا فرض كرادا نكرنا وغيره وغيره و مكريمارا بيشوا باوجود عرب كان تمام نقائص بإك تفار صاف لكحاب كرسوا مقبول صلح الدعليد وسلم ل كبهي كسي كي نہیں مانگا۔ بلکہ آپ نے سوال سے اپنے دوستوں کو آنا منع کیا۔ کہ کسی معجابی کا کوڑا گرجاتا۔ تو وہ خور گھوڑے سے اتر کر اٹھاتا ریاس والے سے ز مالگتا بچوری اور خیانت اور حرص کا کیا کہنا ۔ آیا تو بچین سے

این مشہور تھے۔ قرمن لے کرادا ہذکرنا تو کسطرح ممکن ہے ؟ آپ تو قرمن کی والبی کے وقت اصل قم سے زیادہ اوا فرمایا کرتے تھے۔ پس میراممدوح تمام دنیا کے غرباء کیلئے نمونہ ہے۔ آگر کوئی شخص ان کے نمونہ ہے تو علاوہ اس کے کہ وہ غزیت کے تمام عیبوں ہے بج جائمگا۔ وہ خدا کے فضر سے غزیب بھی نہ رہے گا۔ اور سچ بچ خدا اسے نحاطب کرکے فرمائے گا۔ وُ وَجَدَدُ لِا عَمَا اِسْدُ الْعَلَيْمِ اَنْ اَعْنَى کُلُو مَنْ بِمِ اَنْ بِحَدِيْمِ اِللّٰهُ وَ بَعْدِهِ سِبِحانِ اللّٰد العظیم ،

### أنحفرت وولتمندون كبيئة كامل نمونه

اس طرح حضورالي زمانمين دولتمن رمبو كئ عصياك نود قران مجب ركبها ب. فالعُني ي یعنی تجھے ہم نے عنی کرزیا ۔ بس آپ فورد اورامر مکیے کروڑیتی تا جروں اور دنیائے نمام دولتمندوں کیلئے نمونہ میں۔ آپ فنح مکہ کے بعید اتنے امیر سوعاتے میں کہ ایک ایک دن میں ہزاروں غلام لونڈی آزاد کردیتے میں کرستمری گلیاں ان سے بحرحاتی میں ۔ اونٹ اور مولیثی دینے برآتے میں تواکب ایک شخص کو سوسواونٹ بختر دیتے ہیں اور اتنا فرج کرتے ہی کہ مکہ کے تجربر کار اور لوٹر تھے بوڑھے جہاندیدہ بٹریس کہتے ہیں کہ محمدٌ تواس طرح خرج كرات كه المصحران مير كمي كاوري نه مور بي تمام دونتمندو وكوچائي كوات كى زندگى كامطالعدكري اوراً ب كے قدم برقدم چاكر دولت سے حقيقى فائدہ صاصر كري يسنية! آپ بے شک دولتمند موگئے مگراین ذات براسے بے جا خرج نہیں کیا ۔ سادہ کرچے مادہ توراک وہی سادہ زندگی جوغرت میں تھی وہی اب بھی ہے۔ بیولوں کو نمیال ہو تا ہے کہ اب زلورات بننے شروع ہو حائن گے ۔ اور بجائے غرباء کورویر وینے کے ہمارے معرف میں اوے گا۔ اس لیے انہیں فرمایا جاتا مُ إِنْ كُنْتُ تُن يُتُودُنُ الْحَيَوَا وَالدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَينَ أُمَتِّعَكُنَّ وَ أُسَرِّ حَكُنَّ سَسَوَاحًا جَمِينِكُ م يعن زيورات برروبي نورج كرنام توكيرمري معامِب کی توقع مذر کھنا رمیرا تو ہر رنگ ہے کہ دولت خدا کی امانت ہے جیسے مطے وہ خو دمجی بے شک کھائے رمگر ابنی قوم کے عزیوں پر می خسرج کرے میتیموں کو دے رہواؤں کی خرگری کرے مساکین اور تورفوں اور وگرادی کے نیجے و ب نہوؤں کی مدو کرے . بخاری میں تکھا ہے کہ جب آتے کو اللہ تعالی نے فراخی دی نو أي اپني سر سبوي كو سال بعر كا خرج ميت كى دے دينے - تيمر اپنے تمام مال كو عرباء اور باقى رہنے ، داروں اور قُومَى حَرُورِياتَ بِرِفرِجَ كرتے۔ وفات کے وقت فرما یا۔ حَاتَ وَکْتُ بَعْدَ نَعْنَعَ بِهِ بِسَالِی ج

#### إنسئان كابل

#### المخصرت محكومون كے لئے كابل نمونہ

اس کے بعد ہم آپ کی کتاب میات کو سرس کوریر و بکھتے ہوئے معلوم کرتے ہیں کہ آپ الاسال کا عرصہ کوم رہے ۔ اور محکوم ہی فا لموں ملکہ خوخوار ورندوں کے ماتحت ۔ مگر کہ بھی آپ نے بغاوت نہ کی رزیا دہ ظلم دیکھا ۔ تو ساتھیوں کو کہا ۔ کر پہاں سے خاموشی سے چلے جاو ُ اور معاوُ اور معاوُ کہ کو خوا کے سپر دکیا ۔ جاو سمندروں کے پار حاول اور شاموں کے سابر کے نیچے رہو ۔ اگر کسی نے تنگ آگر کہا ۔ کو خوا ہمیں اپنے حاکموں محلوں نے کی اجازت دی جائے تو فرہا یا۔ اکٹ ڈیٹ والی اٹ نیڈ بیٹ وقی آگر کہا ۔ کو فرا یا۔ اکٹ ڈیٹ والی اٹ نیڈ بیٹ وہ کہ کہ فروں کے معاور اپنے حاکموں سے مت ار مال کو جو ہوں کہ نہوں کہ بیٹ اور آپ کی جان کے لانے پڑگئے ۔ تو آپ خاموشی سے اس حکومت کو جھوٹ محب حاکموں کی تحقیق اور آپ کی جان کے لانے پڑگئے ۔ تو آپ خاموشی سے اس حکومت کو جھوٹ کر جلے گئے ۔ مگر علم بغاوت ملبلہ نہ کہا ۔ کیا یہ صبر اور استقلال اور اس قدر مرد باری اور اتنی امن لیستا کی اور نظر بھی رکھتی ہے ؟ نہیں اور مرگز نہیں ۔ پس آپ تمام محکوموں اور رہا یا کے سلط منونہ بی ،

## أنحضت حاكمون ورباد شابون كبيلة كامل نمونه مكب

سبکان اللہ و تجدہ سبحان اللہ العظیم ۔
پیربادشاہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہم لوگوں کی خدبرت کے لئے نہیں بلکہ لوگ ہماری خدبت کیلئے ہیں گرائے فرماتے ہیں۔ "سبیک القوم خاد م ہوگوں کی خدبرت کے لئے نہیں جے کہ آج سرح الموار ما دے وہ سمجھ کہ آج سے مجھے تمام قوم کا خادم نا دیا گیا ہے ۔ حصور تنود اس قالون کا عملی نموز تھ کے مجمعی نہیں جا ہا کہ لوگ آپ کی بڑائی کریں ۔ ایک شخص روب کی وجہ کا نبتا ہے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو عرب کی ایک خریب ہوں کو ت کا میٹا ہوں ۔ حویز بت کی وجہ سوکھا موا باسی گوشت بھی استعمال کر لیا کرتا کرتی تھی آپ البیند فرماتے کا میٹا ہوں ۔ حویز بت کے دربار میں کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہمو ۔

حضور مشكر وزمتره كابروگرام

پھراکڑ باوشاہ اپنے کام وزرار اور دوہرے امراء کے سپرد کرکے اُپ عیش وعشرت میں شغول ہوجاتے ہیں۔ سگر عارب باد شاہ سارے کام خود کرتے ہیں۔ بانچوں نمازین خود پڑھاتے ہیں یعیدین اور جمعے نو دکرواتے ہیں۔ تمام سٹکر خود روانہ کرتے ہیں بنود ہی افسر مقرر کرتے ہیں بھیر نود ہی ان کے تعام سٹکر خود روانہ کرتے ہیں بنوری کا انتخاب پھران کے گئے زا دراہ اور مجمعی باند صفح ہیں بسیا ہیوں کا انتخاب پھران کے گئے زا دراہ اور احداد متعیاروں کا انتظام خود کرتے ہیں۔ روائگی کے وقت و ورتک ساتھ جاتے ہیں ۔ افسروں اور ماتحتوں کو مرقب کی کو مرقب می کا درائی کو مرقب کی کو مرقب کی کو مرقب می کا درائی کو مرقب کی کو مرقب کی کو مرقب کی کو مرقب کی کا در انتخاب کو نود لرائے دیں۔

سہاں تک کر اِذْ تُبَوِی اُلْمُوْ مِنِینی مَقَائِد َلِقِنَا کے مطابق ایک ایک سیابی کی ولای اور مہرہ نو د مقرر کرتے ہیں ۔ تمام مقدمات ولوانی اور فوجاری نود فیصلے کرتے ہیں۔ اگر رات کو شور سنتے ہیں۔ توسب سے بہلے بھاگ کروہاں بہنچتے ہیں ۔ غریوں اور فلا موں کے کام نود کرتے ہیں۔ تمام معاہدات نود مرتب کرتے ہیں رجح ، عرب ، غروب ان سب تقریباب میں نود شریک ہوتے ہیں مرف والوں کے جنازے نود بڑھاتے ہیں قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں۔ رہایا میں سے ایک فریب ورزی ، کدوگوشت پکاکر گھر مربلا آب قواس کی و لجوئی کے لئے والوں قبول کرتے ہیں۔

تیرا مٰذازی کی مشّق میں نوو شر مک ہوتے ہیں یفود اپنے سامنے فوجی گھڑ دوڑ کرواتے ہیں ۔ مُکٹکے اور نیزہ بازی کے مردانہ اور فوجی کرتب خود دیکھتے ہیں۔ ملکہ ڈر ڈور کرنے کے لیے بیولیوں کو دکھاتے ہیں۔ رعایا میسے کسی و بھارسینے ہیں تواس کے گھر بھار برسی کے لئے جاتے میں کسی کے ہاں بچر برا مو اس کے تھر جا كركان ميں اذان اور تكبير كہتے ہيں لوگ اپنے بيارلاتے ہيں تو دماكرتے ہيں اور خود دوا تجويز كرتے ہيں ر ا بن بُونَ خود گانتھ لیتے ہیں گھر میں جاتے ہیں تو تھانا تیار کرنے اور گھر کا تام کاج کرنے میں تبویوں کا ہاتھ بليتي من يغرض بروقت كامير مقروف ريخ من يهركام بقاياس نهيل رسماً بلكرروز كاروز صاف بوتا رس اب ، كام من اتنى مستعدى ب كم عصر كى نما زمين خيال أنه أب كه تصر مركارى فيزار كالمجيد سونا براب ك جو ابھی غربار میں تقت پر منہیں میوا ۔ توسلام بھرکر اتنی جاری ٹھروالیں جاتے ہیں کہ حاضرین گھرا جاتے ہیں ۔ والبس أكرانهين كهتة مين كه خزارة كالجوسونا غربار مين تقت هيم كيليه نقا اور مين وراكه كهيي شام مو حائه اور غربا بر میں تقسیم نہ موسکے ۔ چر گھر سر کو کی دربان نہیں رکھا ۔ لور مص<sup>ر ب</sup>یجے <sup>، مور</sup>تیں مرد ہر وقت اُنے والوں کا تا نیآ بند صام واسے یا ورسب سے ملتے ہی اورسب کے کام سے فارغ موکر ان کور فصت کرتے میں رجب کوئی ملتا ب تو تحجی نہیں کہت کر جاؤ ۔ ملکہ آنے والا نود اپنی منی سے جلا جاتے ۔ بچر غراب کی اپنے گھر ممتشہ دوس کرتے ئبَي ۔ اپنے خادم انسینم اور اپنے ساتھی الوہر برہ ﷺ کواکٹر کہتے ہیں کہ جاؤ غربار کو بلالا و رہ کے انہیں دُووھ بلا دیں ۔ آج حربرہ کھلا دیں ۔ آج کھجوری تحقہ میں آئی میں ران کی دعوت کریں رپیرروزانہ اپنے گھرمیں مغرب کی نمازکے بعد مشجد سے وس با نبج تو وارد فہمان ضیآفت کیلئے لاتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ کھا نا كھلاتے ئيں ۔

## أنحضرت منابل لوكور كبيلية كامانمونه

پرسلطنت کے کاموں کی وج سے اپنے خاگی فرائعن کوضائع نہیں کرتے۔ایک وقت میں نو بویاں بی ربرگھر میں باری باری شب باش ہوتے ، دن کو مولے بعد ہر گھر میں جا کوسلام کرتے ، سو دا سلف منگولے کا انتظام کرتے ۔عزیز ببی فاطر شکے گھر میں جاتے ۔اس سے طلتے ۔اس سے بچوں کو گلے سے دگاتے ، بیاد کرتے ۔ رمایا بیرسے ہر شخص سے اس طرح ملنے کہ وہ سمجھ آ کہ شاید میں سب سے افضل اور آپ کا محبوب ہوں ۔ صبح سے عشا مہ کی نماز نگ انفرادی اور قومی معاملات میں اس طرح مصروف رہتے کہ نو و خوا نے فرما یا۔ ان کہ کھر بی المنتھ کی المنتھ کا کو بیا اور تو می معاملات میں اس طرح مصروف رہتے کہ نو و خوا نے فرما یا۔ البتد گھر میں والبی آتے ۔ تو جا ہے ۔ بی اور جب فراتھ کا وقع وور ہوئی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مُصلے پر سبتر پر جا کہ رخوڑی دیر آلم کرتے ہیں اور جب فراتھ کا وقع وور ہوئی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مُصلے پر سبتر کی خوا کے نو کہ است میں اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا اس میں بین بین بین بین بی بین اپنے مولی ' اپنے آقا کا شکر گلا کی مولی ' اپنے آگا کا شکر گلا کی کا مولی کا مولی کا مولی کا کا مولی کی کلا کی کی کی کل کی کی کلو کی کا کی کا کی کی کا مولی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا

پھر لکھا ہے تہجدنی نمازیں آپ اسی بے قراری سے روتے اور آپ کے سیسنسے الی آواز آتی ۔ حبسے منبڑیا ہوش مارتی ئے ۔ لکھا ہے ۔ کہ لعض دفعہ آپ نے تہجد کی نماز نثروع کی اور فنجر تک یہی آیت پڑھتے رہے اور روئے رہے ۔ اِنْ نُعَانِ بْهُ مُدْ فَإِنْهُ مُدْعِبَا دُلْکُ وَ اِنْ لَعُلْفِوْلُهُمْ فَا فَإِنْ لَكُ اُنْتَ الْعَدَذِ بِيْ وَالْحَكِ بْهُ ۔

## ببيت المأل كي متعلق حضورً كي اختياط

بھر بادشا موں میں برنعقص موتاہے کر سرکاری فرانہ کو اپنا ذاتی مال سمجھتے ہیں۔ مگر صفور کے متعلق میں مگر صفور کے متعلق کی معلق کی بیٹھ پر یا تقرمار کر آپ نے کھی بال اکھوں اور لوگوں کو دکھا کر فرمایا کر مربی سے مقررہ حق کے عملا وہ سرکاری فزانہ میں سے یہ بال لینے بھی محجے حائز نہیں ملکہ مجھ پر حرام ہیں ۔

#### إنسّانِ كامِل

#### حضوركا قومي كامون مين بطورمز دورحصد لبنا

بھرقوئی کاموں کی ترغیب کے لئے آپٹر مشکل کام میں سب سے بچلے نموز بنتے مسجد نہوی بننے لگی توسب سے سپلے آپٹ نے اکیلے ہی ہتھر ولم مولے نٹروع کرویئے اور بیرد مکھ کر اکیب الفعاری شاعر حلایا۔

لَوْقَعَدْنَا وَالنَّبَيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِناَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّاءُ بعنی ہی اکسیلا کام کرے اور ہم منظیں رہی ۔ یہ تونہات ہی بری کاروالی موگی ۔ انظواور کام کرو۔ غزوه النزاب کے موقعہ برمیخت مردلوں کے دلوں میں معنور ضندق کھو زنے میں شرکی تقے راوراکت کا سبینہ مبارک مٹیسے مجرا ہوا نفا کہ ایک صحابی آیا ۔ اس نے مصورکو دکھا باکہ تھوک کی وجہ سے خالی مپیط پر بیقر باندھا ہواہے ہوئے اس کی تساتے کے لئے اپنا پیٹ دکھایا اس مر دو متھر بذه ہوئے تھے کھود نے کھودتے مورج عزوب ہوگیا کہ حفرت عمرات اور کینے سکے جفورت ب جُدْ بم كام كرر سے مقے روبال كافروں نے البا روركيا برا تفاكر سم بشكل عفرى مماز براھ سكے - أب نے فرمایا ۔ اور بیہاں تو آنا زور تھا کہ ہم عصر کی نماز ابھی تک بھی نہیں بڑھھ سکے ۔ بھرا تنظام الیسا کہ با توعرب میں ڈائے بڑنے تھے یا مکہ سے کویت نک اور خیرے یمن تک ایک کنرور عورت سھیلی بر سونا ىرى مىلىتى توكونى بۇمىيىنے والاتك نىتقا درعب ابىياكەنود فىزمايا ـ كَنْصِرْتْ مِا لَرَّغْنِبِ مُسِينْ دَةُ شُهْدٍ -یعنی خدانے مجھے ابیار عب دیا ہے کہ عرب سے ایک ایک ماہ کے عاصلہ بر رہنے والی حکومتی*ں عرب کی طرف ا* تکھ الممانيكي حرأت مبي كرسكتيس اسي طرح اس زمان كيا وشامول كابرحال سي كمنمو و كيليف كمجني خود حاتيين اور کہ جی اپنے سنسہزاد وں کو ممدانِ عنگ میں جمبیدیتے ہیں۔ مومحفوظ مقامات ہر رہتے ہیں . صرف لوگوں کا ول طرحانے کیلئے میڈنِ حباک میں ہاتے ہیں ۔ مگر مہارا یا دشاہ سرحباک میں بیش بیش رمہا تھا جفرتِ علی ا ما بہادر کہا ہے کہ ہم منگوں کی تندبت سے بھنے کے لئے معنور کے پیچے ہوجا ایکرنے تھے جنگ حنبن میں سب سے آئے برھے کہ ایک تحف نے شواری کی نجر کو رو کا فرمایا اسے چوڑ وو بھرآگے برُھ کرفرایا۔ اَنا النَّبِيُّ كَاكَذِبْ راَنا ابْنُ عَدْد الْمُطَّلِّد

#### بدر كاوافغ

جنگ بدر کا واقعہ ہے ۔ وشمن کے بن بہا در سیان میں آئے ۔ اور انہوں نے مطالد کیا کر لش می سے تین سلمان مقاطبہ کے لئے تھی جاویں۔ ابو مکبر کا ۔ عثمان کا ۔ طلحہ کا زبیر کا اور بسیوں قرنی ی مسلمان موجود نفے مگر آپ نے فرمایا ۔ فٹھ میا عَہلی ۔ فٹھ کیا حکھ ؤہ ۔ فٹھ کیا اُباعب کیا اُباعب کیا اُللہ یعنی آپ نے اپنے بین قریبی رہشتہ داروں کو لڑنے مرنے کیلئے نونخوار ورندول میں تھیجہ یا بسیمان اللہ و بجدہ سبجان النّد اعظیم ۔

## أنحضرت مجبردون كبيلئة كامل نمونه

بیراوراگے بڑھو ۔ تو کتاب تعیات میں تکھا پاتنے ہیں کہ آپ کچیسی مال بینی ہوائی بھر اور عرب کی آب و مواکے لحاظ سے او هیڑ عمر تک بالکا کنواسے اور محرو رہے ۔ مگر نہایت عفیف نہاست پاکدامن کہ تحتی عورت کی طرف ان تکھا طحاکر د کبھنا حرام ۔ جوالی ہے مگر ولوانی نہیں۔ قوی ہیں۔ مگران کا غلط استعمال نہیں ۔ جاربات ہیں مگر بے طرافیہ نہیں ۔ غرض بھارا ممدوح تمام کنواروں اور غیرت ادی کڑھ لوگوں کسیلئے کامِن نمونہ ہمں ۔

## أنحضرت شادى ثده كبيلة نمونه

## أتحضرت عورلول كبيلئة كامل نمونه

آپ فرمایاکرتے تے ۔ کی پیرگ مرخت نیوگ مدید کے اپنا اس کے اپنا اس کے بھی سب سے اپنا وہ شخص ہے جو بیوی کے حق میں سب سے اپھا ہو ۔ حفرت عالمتہ میں فرمانی ہیں کہ مجھے تضور کی کسی بیوی پر جمعی آنا رشک نہیں آیا ۔ جتنا صفرت فدیجہ شہر ۔ حالانکہ میری شادی سے تین سال قبل وہ فوت سہو جی تقال حرف اس کے کہ صفور ان کی وفات کے بعد اکثر ان کی خوبیوں کا ذکر نی اکتر ان کی خوبیوں کا ذکر نی بیولیوں سے نہیں کرتے تو اپنی مرحوم بیوی کی خوبیوں کا ذکر نی بیولیوں سے نہیں کرتے تو اپنی مرحوم بیوی کی خوبیوں کا ذکر نی بیولیوں سے نہیں کرتے تو اپنی مرحوم بیوی کی سہلیوں تک بیولیوں سے نہیں کرتے تو اپنی مرحوم بیوی کی حب سہلیوں تک کو حصہ جمیعے یہ حضور کو دیکھ کرمیری سہلیوں کے ساتھ گوایاں او حراد ہرکو نواں میں جگیب جاتیں کے ساتھ گوایاں او حراد ہرکونوں میں جگیب جاتیں ہیں ان کو ملاتے اور کہتے کہ عالمتہ کے ساتھ کھیلو ۔

' مفروں میں تھجی حضور بیولوں کو لیے حانے اور ہر وقت ان کی دلجو ٹی فرماتے ۔ لکھائے کہ گھر کلہ کا میں میں میں کہا ہے تاہا ہ

کے کام کاج میں ہو یوں کا ہاتھ بٹاتے ۔

میہود اور مہودیں حالفہ بوی باورجی خانے میں نہیں جاسکتی۔ خاوند کے ساتھ لیٹ نہیں سکتی ۔ ملکہ اللہ رمتی ہے۔ آپ نے یہ نا فذری اور ذکت دورکی ۔ معنور البی حالت میں ساتھ سوقے ۔ گود میں سر رکھ کر قرآن بہتے ۔ اسی سوقے ۔ گود میں سر رکھ کر قرآن بہتے ۔ اسی طرح اسلام سے پہلے بویاں خاوند کے مال کی وارث نہ ہوتی تھیں ۔ مصنور کے عور لول کو بھی اس مق سے مشرق فرمایا ۔ جسے دیکھ کر آج تحر کی سہورہی ہے کہ مبدو میوہ مجی خاوند کی وارث بواکرے ۔ وفات کے وقت فرمایا دت کا کھ میٹھ بیٹے بیٹی اُمرک کی گائی مینی مجھے اپنے لعد سب سے زیادہ تمہاری فکر سے کول کرے گائی

تمیر فرمایا ً۔وَکُنْ تیصْبِی عَلَیٰکُنَ اِلگَالصِّدِیْدُونَ کینی تمہاری خدمت مربے بعد مربے سیخ تا بعدار اور کیئے موسُن فرور کریں گے ۔ غرض آیٹ نے ایک شا دی شدہ کے لئے وہ رافت اور صن سلوک کا تمویز قائم کیا ہے کہ جس کی نظر نہیں۔ آپ کو تو دلجوئی مہاں تک منظور تھی ۔ کہ آپ نے ایک وفد سنسید کا شربت ہو آپ کو بہت مرغوب تعوائیا۔

#### إنسكان كامل

کہ ایک بیوی نے یونہی کہدویا ۔ کر آپؓ کے منسہ سے بو ؑ آتی ہے ۔ فرمانے ملگے آئندہ میں محمعی شہد کاشرت نہیں بیوں گا ۔

## صاحب اولاد كبلئه كامل نمونه

مجراً پی کتاب حیات میں لکھا ہے۔ کہ آپ صاحب اولا وقعے۔ زیرب ہے۔ رقیق ام کلتوم اور فاطمہ ہے۔ اور سے بھرا ہے۔ اور سے بھرا ہے۔ اور سے بھرا ہے۔ اور سے بھرا ہے۔ اور ایسا کا مبال موقعت اور ان کی صحت صبحانی و روحانی کا خیال رکھا ہے۔ وہ ایک الیہ الیہ الیہ ایسا کا اور الیسا کا اس ہے کہ اگر اس برعم کیا جائے تو اولاد کھبی نہ بگر ہے۔ اور والدین کیلئے قرق العین مو ۔ جہانچہ منور و مکھ لو کہ آپ کی سب سے بیاری بیٹی فاطمر تھیں ۔ اور جو و اتنے لاو اور پیار کے آپ کی تربیت سے الیمی تعلیم میڈید کا فیل الجک سے اور کو خطاب پایا۔ اور دنیا کی ساری عور لول سے بر مدکستی رفع ضہیں۔ سے رکھ کی سب سے بیال موقع نہیں۔ سے بر مدکستی کی تعمیل کا میمال موقع نہیں۔ سے بر مدکستی کے تیمال موقع نہیں۔ سے بر مدکستی کی سے تاب کی تاب کی تربیت کے بیس سے مربو کی تیمال موقع نہیں۔ کرتے سے تاب کی تا

## اولاد فوت سونے پر صبر کا کامِل نمونہ

#### إنسئان كابل

جند دانوں تک ہم می ان سے ملنے والے ہیں۔ اسلئے چند روزہ حدائی کے لبد تھر مہارے حوات ہوئے ہم سے می لینے ۔ اور تعوار سے وفقر سے آگے ہیجے جانے والے آپس میں ملاقات کرکے دائمی وص کا شرب بیئی گے ۔ لیرکیا ہی عجب بنموز سے ۔ حبو اولاد کی وفات برصفور نے وکھایا ۔ لکھایا ۔ کہ صفور نبی مہوکر بیٹھے ہوئے سے کہ آپ کی انگھیں انسو و اسے جہنے لگیں ۔ کسی لے کہا ۔ کہ صفور نبی مہوکر بیٹھم ؟ آپ نے فرایا ، بیجذبر او رحمت وشفقت ہے ۔ حبود و در وال پر دم منہیں کرتا ۔ اس بیر بھی رحم نہیں کریا جائے گا۔

## الخضرت کے اکلوتے بیٹے کی وفات

## بطور حبنبل اور فانخ کے کامانیمونہ

له موجبه ، - بيموا نسوسياتي ب داور داخلين بد داوريم وي كيت بي جس سهارا رب رامني مو -

نكال كرجيابا گيا - اورائ كوسخت رنج بينجا يا گيا مگر با وجوداس كے فرمايا - كه خرزار مسلمانوا نم اليبار كرنا - سبحان الله و محدوس بحان الله العظيم -

## بطور کننبہ والے کے کامِل نمونہ

پھرآپ کنبہ والے ہیں۔ تمام کنبہ آپ سے خوش ہے۔ سب کی خبر گری کرتے ہیں۔ خانوان کے کا فر اور فاسق لوگوں کے متعلق فرمایا۔ اِنتَّما الْحُفُلاَ بِ لَـٰ يَسْفُوا فِي بِا وَلِبَا مِ وَلَاكِنَ لَـٰ هُمْ دَحَدَدُ سَا بُلِتُهُا سَبَلاَ لِهَا ﴾ یعنی میرے خاندان کے فلاں فلاں لوگوں سے کفرونفاق کی وجسے میراکوئی قلبی تعلق نہیں۔ مگر ہاں وہ میرے رہشتہ دار ہیں۔ وہ حق میں ان کا صرور اداکر آ رموں گا۔

## بطور دوست کے کام نجونہ

معراورسنے اکپ کے دوست مجی ہیں۔ مگرسجان اللہ کیسا اعلی نمونہ آپ نے دوسنی کا دکھایا۔ کہ کوئی دوست آپ کا شاکی نہیں ۔ وفا داری الیمی کرمرتے دم تک

## انكسار كاكام لخمونه

بھراور منینے ! آپ ایب زمانہ میں کس میرس تھے ۔ میور شہور مہد گئے ۔ خدا مجی فر مانا ہے وَ دَفَعْ مَنَا لَکُ خِدَ وَ اَلَّهِ مِنَ مَنْ اِلْكُونَ اَلْمُونَ اَلْمُونَ اَلْمُونَ اَلْمُونَ اَلْمُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اکیلے تھے تو کسی فی ویلے نہیں۔ حق کا اَطْہَار کیا ۔ لاکھوں ساتھی ماگئے توکسی بر بے جا دباؤ ند ڈالا ۔ گمنام تھے تو ذلیل نہتھے مشہور سوٹے لو متکبر نہ ہوئے۔ غرض ان تمام باتوں میں صفور نے دنیا کیلئے کامِل نمونز بیش کیا ۔ سمان اللہ و سمجد ہسجان اللّٰہ العظامیم ۔

#### إنسكان ككول

## بطورقب ي أب كابل مونه

تجرآب قدیمی ہوئے۔ تین سال تک شعب اسطالب میں قدیرہے۔
صفرت اوسف می قدید ہوئے۔ مگر قرآن کہتا ہے کوقید کرنے والوں کی طرف سے کھا ما ملتا
تھا۔ مگر صفور کو ظالموں نے اس طرح قید کہا ۔ کہنود کھا نا دینا او کیا ۔ ہمنی ہے ہی نہ دیتے ہے ۔
ملکھاہے ۔ کہ رات کے وقت بنو ہا شم کے معصوم بچوں کے معبول کے مارے رونے کی آوازیں سارا مکہ سنتا تھا ۔ مگر سبجان اللّہ اصبر ہو او الیسا ۔ قید رہے ۔ مگر تی کونہ تھوڑا ۔
میں بتیں ہر داشت کیں ۔ مگر سبجائی سے مند نہ موڑا ۔ اور تین سال تک قید رہے ۔ مگر دین مق کو بیش کرنے ہی ہوازیں مکہ مق کو بیش کر ایک ہوائیں کہ اور انہوں نے ابنا بائیکا طی توہ دیا ۔ اور تعنور اور آیٹ کینہ کے لوگ آزاد ہو گئے ۔ اور انہوں نے ابنا بائیکا طی توہ دیا ۔ اور حفاور اور آیٹ کے کننہ کے لوگ آزاد ہو گئے

## زندگی کی تمام منزلوں میں کامِل نمونہ

#### إنسَانِ كَامِل

ائتے اور پیچیے سے اگر بے تکلفی سے میرا کان یا سر بکیر لیتے ۔ میں کہنا کہ اجھا تعضور ابھی جاتا مہوں دائی ہوں ہا جاتا ہوں ۔ حضرت عائشہ فرمانی بئی ۔ وَ اللهِ صَاحَتَ وَبُ دَسُولُ اللهِ حَادِ مُنَّا ۔ لِعِنی خادِ مُنَّا ۔ لِعِنی خدا کی قسم حضرت نے کبھی کسی ملازم کو نہیں مارا ۔

#### غلامون سے سلوک

غلاموں سے الیے شفقت کہ زید بن حارثہ نام غلام آپ کو حفرت خدیجرشنے دیا۔ آپ فے اس سے الیسا حسن سلوک کیا کہ اس کے باپ اور جائی کم تریں آئے اور کہا کہ حضور یہ تارا لوم کا فلاں حبک علام بن کر صفور کے باس بہنچ گیا ہے۔ اسے ہمیں دے دیں۔ آپ نے بڑی نویٹی سے اجازت دے دی ۔ مگر دیکھو آپ کے حن سلوک کا انٹر کہ زید نے کہا۔ کہ مجھے اس شحف کی غلامی منظور ہے ۔ مگر آزاد ہوکر اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ اپنے قبیلہ میں جانا منظور نہیں اس سے برا حکر غلاموں سے حن سلوک کی کیا مثال اور نمونہ ہوسکتا ہے۔ حانا منظور نہیں اس سے براحد کر فلاموں سے حن سلوک کی کیا مثال اور نمونہ ہوسکتا ہے۔ سبحان النّد و مجدم سبحان النّد العظیم ۔

#### آب کی خطائومتیت

ابس ایک آخری بات لکوکر این مضمون کونتم کر آ بوں کہ صفور تیرہ بری تک مکہ میں اور اکھ برس تک مدین ایس کفاڑ عرب کے طلمول کا تخدیم مشیق سبنے رہے۔ انہوں نے ایپ کو وطن سے بیوطن کیا ۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مارا ، پیٹا ، زخمی کیا ۔ قتل کے درلج موٹے ، قید میں رکھا ۔ طائف کے لفنگوں نے بہتر مارتے ، گالیاں دیتے ، اوباشوں اور کتوں کو پیچیے بھگانے ہوئے گیارہ میں تک حصنور کا لاقا قب کیا ۔ آپ نماز پر صدی میں کہ بیٹھ پر اوسط کی او جبر می گندگی سمیت لاکر رکھ دی ۔ خانہ کعد بین نماز پر صف کیا ۔ بہترت کے موقعہ پر جو آپ میں ٹرکیا ڈال کر گلا کھو نیٹے گئے ۔ جنگ اُحد میں آپ کو زخمی کیا ۔ بہترت کے موقعہ پر جو آپ میں ٹرکیا ڈال کر گلا کھو نیٹے گئے ۔ جنگ اُحد میں آپ کو زخمی کیا ۔ بہترت کے موقعہ پر جو آپ کو زندہ یا مردہ لا وے ۔ اس کے لئے شواون طی کا انعام مقرر کرکے آپ کو است تہاری محبرم قبل کیا ۔ آپ پر ایمان لا لئے والے غلاموں اور واردیا ۔ آپ کو انگی باؤں ایک اون سے اور لونٹرلیوں کو مارمار کر اندھا کر دیا ۔ ظاموں نے مسلمانوں کا ایک باؤں ایک اونٹ سے اور لونٹرلیوں کو مارمار کر اندھا کر دیا ۔ نیس اندہ کیا ۔ آپ پر ایمان لا کے والے غلاموں اور کونٹرلیوں کو مارمار کر اندھا کر دیا ۔ نیس مسلمانوں کا ایک باؤں ایک اونٹ سے اور

#### إنسَانِ كَامِل

دوں ادوں سے سے باندھ کر دولوں کو بلاکر جسم کے دو مکٹرے کر دیئے ۔عفیفے عور آبوں کی سزمگاہوں میں نیزے مار مار کر شنسبید کی گیا ۔مدینہ پر متواتر چڑھ کر اُئے ۔ اُپ کی جوان صاحبزا دی کو اس قدر سمجھ مارے کہ اسفاط ہوگیا اوراسی میں وہ فوت ہوگئی۔

## اب كعفو كاكام نمونه

اس تمام طلموں کے لعد حب مکہ فتح ہوتہ ہے اور خواکا بی دس مرار قدوسیوں کے جمکھتے میں اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكِ الْفَرْ اٰنَ لَرَّ الْاَ الْكَ الْكَ الْكَ عَلَامِ اللَّهِ عَلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

دنیا کے لوگو! با واکہ اس کا کوئی نموذہے ؟ حکومت کے نمائندو! نام لوکسی

بادشاہ کا جس نے بہنمونہ دکھایا ہو۔

## منحضرت اور حضرت لوسف كے عفو كامتقابله

بے شک حفرتُ لو مف ع نے اپنے قصور واروں کو معاف کیا۔ مگرکس کو ؟ اپنے سگے ہجائیوں کو ۔ مگر کو معاف مجائیوں کو ۔ مگر کے لوگوں کو معاف کیا۔ مگر مسلے اللہ علیہ واللہ وسلم نے بے شک اپنی برادری کے لوگوں کو معاف کیا۔ مگر دوہ سے ۔ اگر لوسف اینے ہجائیوں کو معاف نہ کرتا تو کیا کرتا ہے کہ محد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزا ویتے تو کیا مضالفہ تھا۔ علیہ وسلم اگر مزا ویتے تو کیا مضالفہ تھا۔

یہ جب میرسے ہا و وق ہور سطیقیا کا سیسیر کو ہو اللہ ان حال السی نہیں ہے۔ اور کو اُلنا اَن حالت السی نہیں جس سی آپ منونر نرمول راسی لئے اس وقت اسمان کے نیچے ساری دنیا کیلئے اُپ کے سواکو اُن شخص کارے لئے کال مذر نرم سرک آ

' أَللَّهُ مُرْمَنِ إِلَى مُحَمَّدَي وَعَلَى الرمُحَمَّدِ وَمَادِكَ وَمَلَوْدَ وِلْكُ حَمِيْلٌ عَجِيدِ لللهُ ط

فَاكْسَارْ دِسَبِيْدِحِمَّدُاسْحَاقْ